

15 فروری 2018

سٹی آف برامپٹن میں فیملی ڈے 2018

برامپٹن، آن – بروز پیر مورخہ 19 فروری کو برامپٹن سٹی ہال، فیملی ڈے کے سلسلے میں بند رہے گا۔ شہر کی بہت سی خدمات دستیاب نہیں ہوں گی یا معمول سے کم کی سطح پر کام کریں گی۔ شہری اس وقت کے دوران خود تشریف لا کر شادی کے لائسنس کے لیے درخواست دینے، غلط پارکنگ پر جرمانہ بھرنے اور پرمٹس کے لیے درخواست نہیں دے سکیں گے۔ آن لائن انتخابات کے لیے، برائے مہربانی www.brampton.ca ملاحظہ کریں

کئی خدمات معمول کے مطابق کام کرنا جاری رکھیں گی، بشمول: فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور سٹی آف برامپٹن ہائی لاء انفورسمنٹ۔

سٹی آف برامپٹن کی سروسز میں ردوبدل اور بندش کے متعلق مزید معلومات کے لیے، برائے مہربانی 311 پر کال کریں یا www.brampton.ca ملاحظہ کریں

آمدو رفت کی سروسز

برامپٹن ٹرانزٹ بروز پیر مورخہ 19 فروری کو سنڈے/ہالی ڈے سروس فراہم کرے گا اور ٹرانزٹ اسٹورز بند رہیں گے۔

راستوں اور شیڈول کی معلومات کے لیے 905.874.2999 پر کال کریں یا www.bramptontransit.com ملاحظہ کریں اور آنے والی اگلی بس کے متعلق براہ راست معلومات کے لیے نیکسٹ رائیڈ استعمال کریں۔ کسی بھی اسمارٹ فون یا دیگر موبائل ڈیوائس پر اگلی بس کے متعلق براہ راست معلومات nextride.brampton.ca پر حاصل کریں

تفریح

بروز پیر مورخہ 19 فروری کو پورے سٹی آف برامپٹن میں تفریحی مراکز ایسے پر لطف پروگرام پیش کریں گے جن سے پورا خاندان لطف اندوز ہو سکے گا۔ رہائشیوں کو تیراکی، اسکیٹنگ، خاندان کی تندرستی کے پروگراموں اور دیگر کئی سرگرمیوں میں شرکت کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ ایک معمولی فیس وصول کی جا سکتی ہے۔

چنگواکوسی پارک 19 فروری کو کئی خاندان دوست سرگرمیوں کی میزبانی کرے گا۔ پورے پارک میں پھیلی ہوئی سرگرمیوں اور تفریح کے ساتھ ایک پر لطف دن کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے، جس میں نئی اسکیٹنگ ٹریل اور ماؤنٹ چنگواکوسی کے اردگرد نمایاں سرگرمیاں مرکز نگاہ ہوں گی۔

شہر کے کمیونٹی سینٹرز اور بیرونی اسکیٹنگ ٹریلز پر فیملی ڈے کی سرگرمیوں کی مکمل فہرست کے لیے، www.brampton.ca ملاحظہ کریں

برامپٹن لائبریری

برامپٹن لائبریری کی تمام شاخیں فیملی ڈے پر دن 1:00 - شام 5:00 تک کھلی رہیں گی۔ پروگرام کی معلومات کے لیے www.bramptonlibrary.ca پر جا کر کیلنڈر آف ایونٹس پر کلک کریں یا 905.793.4636 پر کال کریں۔

-30-

میڈیا کنٹیکٹ

ننالی سٹوگڈیل

میڈیا کوارڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

natalie.stogdill@brampton.ca 905.874.365